

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن نے بلیک نارٹھ انیشیٹیو کی اعانت کا فیصلہ کیا ہے؛ جو سیاہ فام رہائشیوں کے خلاف نسل پرستی کے خاتمے کے عزم کو تقویت پہنچائے گا

برامپٹن، آن (17 جون 2021) – مورخہ 16 جون کو برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر [بلیک نارٹھ انیشیٹیو](#) میں شمولیت کے عزم کا ظہار کیا ہے۔

اس اقدام کے لیے پُر عزم ہونے اور دستخط کرنے سے، سٹی آف برامپٹن 450 سے زائد ایسی عالمی تنظیموں میں شامل ہو جائے گا جو کینیڈا کے سیاہ فام رہائشیوں کی زندگیوں کو منفی طور پر متاثر کرنے والی نظام میں موجود سیاہ فام رہائشیوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا قلع قمع کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔

یہ شراکت داری ایکویٹی آفس کے تحت سرگرم عمل ہو کر شہر کے اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی ریس ازم یونٹ کے کام کی تکمیل کرے گی اور برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ماہرین کی تنظیم کے مضبوط نیٹ ورک تک رسائی کو ممکن بنائے گی، نیٹ ورکنگ کے وسیع تر مواقع پیدا کرے گی، رہنمائی فراہم کرے گی اور شراکت داری کو فروغ دے گی اور اس کے علاوہ آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے شراکت داری اور باہمی طور پر مربوط ہونے کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔

سٹی ہمارے شہر میں موجود سیاہ فام رہائشیوں کے خلاف پائی جانے والی نفرت کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے گا۔ مورخہ 10 جون 2020 کو برامپٹن سٹی کونسل نے بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی ریس ازم یونٹ کے قیام کی متفقہ طور پر منظوری دی تھی۔ اس یونٹ کا مقصد مقامی کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز کی رہنمائی کے ساتھ برامپٹن کے نظام میں موجود سیاہ فام افراد کے خلاف نسل پرستی کے رویوں کے خاتمے کے لیے ایک عملی منصوبہ تیار کرنا ہے اور برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی اور معاشی صورت حال میں بہتری لانا ہے۔ پچھلے سال کے دوران، اس یونٹ نے سیاہ فام کمیونٹی کے تعلیمی اور سرکاری ایجنسیوں / تنظیموں کے ساتھ بہتر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کمیونٹی کے اراکین اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مبنی کئی مثبت سرگرمیوں اور مفید تقریبات کا انعقاد کیا ہے۔

اس یونٹ کی سیاہ فام کمیونٹی اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اہم حکمت عملی مرتب کرنے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت جاری ہے اور اس سے ایک ایسا ایکشن پلان تیار کرنے میں کلیدی کردار سامنے آئے گا جو شہر کے نظام میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کچھ مفید اقدامات کی نشاندہی کرے گا۔ یونٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے [brampton.ca/antiblackracism](http://brampton.ca/antiblackracism) پر جائیں۔

### بلیک نارٹھ انیشیٹیو کے بارے میں

کینیڈین کونسل آف بزنس لیڈرز اگنیسٹ اینٹی بلیک سسٹیمک ریس ازم کی سربراہی میں سرگرم عمل، بلیک نارٹھ انیشیٹیو کی بنیاد 2020 میں کارپوریٹ کینیڈا میں نظر آنے والی واضح عدم مساوات کا قلع قمع کرنے اور کینیڈا کے سیاہ فام رہائشیوں کی زندگیوں کو منفی طور پر متاثر کرنے والی نظام میں موجود خرابیوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ بلیک نارٹھ انیشیٹیو کا مشن پورے کینیڈا میں بورڈ رومز اور اعلیٰ و کلیدی عہدوں پر سیاہ فام کمیونٹی کے ممبران کی نمائندگی میں اضافہ کرنا ہے۔ کارپوریٹ کینیڈا کے عزائم کو پورا کرنے میں معاونت فراہم کرتے ہوئے، بلیک نارٹھ انیشیٹیو نے متعدد بنیادی پروگرام تیار کیے ہیں اور ان کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے جس کا مقصد سیاہ فام کمیونٹی کے لیے کاروباری شعبوں میں مساوات، ہوم اونرشپ برج پروگرام اور سیاہ فام نوجوانوں کے لیے ذہنی صحت کے ایک پروگرام سمیت دیگر متعدد شعبہ جات میں کینیڈا کی سیاہ فام کمیونٹی کی مدد اور معاونت کرنا ہے۔ مزید یہاں پر [blacknorth.ca](http://blacknorth.ca) جانیں۔

### ایکویٹی آفس کے بارے میں

سٹی آف برامپٹن نے ایکویٹی آفس کے قیام سے اپنی کونسل کی مدت کے دوران مختلف کمیونٹیز پر مشتمل پھولوں کے ایک خوبصورت گلڈستے کی مانند برامپٹن میں اپنے ملازمین اور شہریوں کی خدمت میں بہتری لانے میں اگلا قدم رکھا ہے۔ ایکویٹی آفس، جو اکنامک امپاورمنٹ اور اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کی معاونت سے کام کرتا ہے، تمام افراد کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک کو یقینی بنانے

اور شہر کے اندر اور اپنے باشندوں کے لیے ایک پر امن ماحول کو فروغ دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کرے گا۔ نومبر 2019 میں، سٹی آف برامپٹن نے ایک نیا پانچ سالہ ورک پلین ڈائورسٹی اینڈ انکلیوژن اسٹریٹیجی اینڈ ورک پلان کا آغاز کیا تھا، جس میں تنظیمی ماحول میں زیادہ متنوع افراد کی شراکت کو پروان چڑھانے کے لیے مواقع متعین کیے گئے، جو اپنے لوگوں کی نشوونما اور ان کی خوشیاں منانے اور زیادہ متنوع افرادی قوت کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔

### اقتباسات

"یہ عہد ہمارے شہر کے نظام میں موجود نسل پرستی کے خاتمے کے حوالے سے سٹی آف برامپٹن کے عزم مصمم کی تصدیق کرتا ہے۔ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کے اہم کام پر ان کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ان کی اعانت سے، ہمارے پاس ایک وسیع تر نقطہ نظر موجود ہو گا اور ہم سیاہ فام کمیونٹی میں حقیقی اور مؤثر تبدیلیاں دیکھ اور سن سکیں گے اور ہمیں ان کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے میں مدد ملے گی اور ہمارا یہ کام شہر کے نظام میں موجود سیاہ فام کمیونٹی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرنے میں مفید ثابت ہو گا۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"پچھلے سال کے دوران، سٹی کے اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ نے نسل پرستی کے خاتمے کے کام کی بنیاد رکھی ہے اور اب وہ کمیونٹی کے ساتھ ایک تفصیلی مشاورت کے عمل کی جانب گامزن ہے، جس سے شہر میں تنوع کو سراہت کرنے کے لیے ایک جامع پانچ سالہ عملی منصوبہ تیار کرنے میں بیش قیمت مدد ملے گی۔ بلیک نارٹھ انیشیٹیو جیسی بیرونی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اس کام کے فروغ میں کمیونٹی کی شراکت داری کو بڑھانے سے اس منصوبے کو ترقی دینے اور ماہرین کو اس جانب راغب کرنے سے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ہمیں مدد حاصل ہو گی۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"بلیک نارٹھ انیشیٹیو نے اس نازک مسئلے میں موجود خلاء کو بڑے پر پُر کیا اور اس کی نشاندہی بھی کی - یعنی کینیڈا کے کاروباری شعبے میں سیاہ فام کمیونٹی کے افراد کے لیے کاروباری اور پیشہ وارانہ مواقع کے فقدان کو سامنے لایا گیا۔ کارپوریشنوں اور معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ ملک بھر میں موجود نسلی امتیازات کی راہ میں حائل منظم رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے مکمل سماجی ذمہ داری قبول کو کریں۔ سیاہ فام کمیونٹی کے باصلاحیت افراد، کاروباری اداروں، نوجوانوں اور اس کمیونٹی کی بطور مجموعی کامیابی اور شمولیت کے لیے کوئی بھی کام کرنا قابل تعریف ہو گا۔ یہ یقیناً ایک بے مثال اقدام ہو گا اور میں حاصل ہونے والے امکانات کے بارے میں بہت پر جوش ہوں۔"

- گیورینہ چیپمین، سینئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم، سٹی آف برامپٹن

"ہم بلیک نارٹھ انیشیٹیو میں شامل ہونے والی دوسری میونسپلٹی بننے پر سٹی آف برامپٹن کی تعریف کرتے ہیں اور سیاہ فام کمیونٹی کے خلاف نسل پرستی کے رجحانات کی روک تھام اور اس کی وجہ سے ان پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے سٹی آف برامپٹن کے عزم کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم میئر پیٹرک براؤن اور برامپٹن کے سٹی کونسلرز کی جانب سے فیصلہ کن اقدامات اٹھا کر برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کو با اختیار بنانے اور انہیں ترقی دینے کے عہد میں ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم پورے ملک کی میونسپلٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔"

- ویس ہال، فاؤنڈر، بلیک نارٹھ انیشیٹیو

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)